

Surah 024: Al-noor - سورة النور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[24:0] Bismi **ALLAH**, Alrahman, Alrahim.

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

[24:1] (Wannan) surah ce. Mun saukar da ita, kuma Mun wajibta ta, kuma Mun saukar da ayoyi bayyanannu a cikinta, domin ku rinqa tunawa.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Zina

[24:2] Mazinaciya da mazinaci, to, ku yi bulala ga kowane daya daga gare su, bulala sau dari. Kuma kada tausayi ya kama ku game da su a cikin addinin Allah idan kun kasance kuna yin imani da **ALLAH** da Ranar Lahira. Kuma wani yankin jama, a daga muminai, su halarci azabarsu.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

[24:3] Mazinaci ba ya aure sai da mazinaciya ko mushirika, kuma mazinaciya babu mai aurenta sai mazinaci ko mushiriki. Kuma an haramta wannan a kan mumina.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

[24:4] Wadanda suke zargin matan aure masu kamun kai a kan zina, sa'an nan suka kasa fito da shaidu hudu, ku yi masu tamanin, kuma kada ku karbi wata shaida daga gare su har abada; wadancan su ne fasikai.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

[24:5] Sai dai wadanda suka tuba daga bayan wannan, kuma suka gyaru, to lalle, **ALLAH** Mai gafara ne, Mai jin qai.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ

شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

[24:6] Amma wadanda ke zargin matan auresu, kuma ba tare da wadansu shaidu ba, to, za iya karban shaidar dayansu, idan ya yi rantsuwa sau hudu da ALLAH cewa yana fadan gaskiya ne.'

وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

[24:7] Kuma ratsuwa ta biyar ta kasance cewa, 'La'anar **ALLAH** ta tabbata a kansa, idan ya kasance shi mai qarya ne.'

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ

الْكَذِبِينَ ﴿٨﴾

[24:8] Ba za kama ta da laifi ba idan ta yi ratsuwa da **ALLAH** sau hudu cewa shi maqaryaci ne.

وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

[24:9] Kuma ratsuwa ta biyar ta kasance cewa la'antar **ALLAH** ya tabbata a kanta idan ya kasance shi mai gaskiya ne.'

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

[24:10] Kuma ba domin falalar **ALLAH** ba a kanku da rahamarSa...cewa **ALLAH** Mai karbar tuba ne, Mai hikimah.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Yadda Ake Daukan Zacan Tsegumi Da Zargin Da Bubu Hujja

[24:11] Wata qungiya daga gare ku ta fito da wani babban qarya.* To, kada ku yi kada kuyi zoton cewa sharri ne a gare ku; a'a, ya kasance alheri ne a gare ku. A lokacin da ake cikin haka, kowane daya daga gare su yana da

sakamakon abin da ya aikata na zunubi. Amma wanda ya soma dukan aukuwar, yana da azaba mai girma.

**24:11 Lafazin wannan batun tarihin abin da ya auku inda aka bar matar Annabi Muhammad, watau Ayshah a cikin hamada a kan kuskure, sa'annan kuma aka ganta da wani samari wanda ya taimaka mata domin ta koro ayarin Annabi. Wannan ne ya haddasa mashahurin 'Babban Qarya' a kan nana Ayshah.*

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا
إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

[24:12] A lokacin da kuka ji shi, da mumintai maza da mumintai mata, sun yi zaton alheri game da kansu, kuma da sun ce, "Wannan babban qarya ne bayyananne."

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ
عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

[24:13] Sai kawai idan da sun zo da shaidu (sai ku yarda da su). Idan kuwa suka kasa kawo shidu hudu, to, wadannan a wurin **ALLAH**, su maqaryata ne.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا
أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

[24: 14] Kuma ba domin falalar **ALLAH** ba a kanku da rahamarSa a cikin duniya da Lahira ba, da kun sha wahalan azaba mai girma saboda wannan abin da ya auku.

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ
وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

[24:15] A lokacin da kuka qirqiro shi (qarya) da harsunanku, kuma sai sauranku suka maimaita shi da bakunanku ba tare da hujja ba. Kun yi tsammani abu mai sauqi ne, alhali kuwa, a wurin **ALLAH**, babban abu ne.

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا
بِهْتِنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

Abin Da Ya Kamata Ku yi

[24:16] A lokacin da kuka ji shi, da kun ce, "Ba za mu maimaita wannan ba. Tsarki ya tabbata a gare Ka, wannan qarya ne babba."

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾

[24:17] **ALLAH** Yana yi maku gargadi da cewa, kada ku koma yin haka, har abada, idan kun kasance mumina.

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾

[24:18] Kuma **ALLAH** Yana bayyana maku ayoyinSa, **ALLAH** Masani ne, Mai hikimah.

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

[24:19] Waaanda suke son su ga alfasha ta watsu ga masu imani suna da azaba mai radadi a cikin duniya da Lahira. **ALLAH**, Shi ne Ya sani, alhali kuwa, ku ba ku sani ba.

﴿٢٠﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ رءُوفٌ رَّحِيمٌ

[24:20] Kuma ba domin falalar **ALLAH** ba a kanku da rahamarSa...kuma **ALLAH** Mai tausayi ne, Mafi jin qai.

﴿٢١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Shaidan Yan Zugan Zargin Da Babu Asali

[24:21] Ya ku masu imani, kada ku bi hanyoyin Shaidan. Wanda duk ya bi hanyoyin shaidan, to, ya sani cewa yana umurni ne da yin alfasha da mugunta. Kuma ba domin falalar **ALLAH** ba a kanku da rahamarSa, da babu wanda zai tsarkaka har abada. Amma **ALLAH** Yana tsarkake wanda Yake so. **ALLAH** Mai ji ne, Masani.

وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا
تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

[24:22] Kuma kada ma'abuta falala daga gare ku da mawadata su yi rowar bayar da alheri ga danginsu, da matalauta, da muhajirai, fi sabili **ALLAH**. Kuma su yafe, kuma su kau da kai; shin, ba ku son **ALLAH** Ya gafarta maku? **ALLAH** Mai gafara ne, Mafi jin qai.

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

Babban Laifi

[24:23] Lalle ne, waaannan da suka zargi matan aure masu kamun kai mumintai masu ibada, to, an la'ane su a anan duniya da Lahira; kuma suna da mumunan azaba.

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

[24:24] A ranar da harsunansu, da hannayensu, da qafafunsu za su bayar da shaida a kansu, game da abin da suka kasance suna aikatawa.

يَوْمَ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

[24:25] A ranar nan, **ALLAH** zai cika masu sakamakon ayyukansu tabbatacce, kuma za su san cewa lalle **ALLAH**, Shi ne Gaskiya bayyananna.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
 وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
 وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

[24:26] Miyagun mata domin miyagun maza suke, kuma miyagun maza domin miyagun mata suke, tsarkakun mata domin tsarkakun maza suke, tsarkakun maza domin tsarkakun mata suke. Wadannan (na qwarai) su ne ba su da laifi game da wadannan zargi. Kuma suna da gafara da arziki na karimci.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى
 تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

Qa'idodin Zaman Tare Na Ibada

[24:27] Ya ku masu imani, kada ku shiga gidaje wadanda ba naku ba, ba tare da izni ba daga masu gida, kuma ba tare da kun yi sallama ba, a kan ma'abutansu. Wannan ne mafi alheri gare ku, la'alla, za ku tuna.

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ
 لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

[24:28] To, idan ba ku sami kowa a cikinsu ba, to, kada ku shige su, sai kun sami izini. Kuma idan an ce maku, "Ku koma," sai ku koma. Wannan shi ne mafi tsarkakawa, a gare ku. **ALLAH** Masani ne game da duk abin da kuke aikatawa.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَكُمْ



وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

[24:29] Babu laifi a kanku, da ku shiga gidajen da babu mai zama a ciki, a cikinsu akwai wadansu kaya wanda naku ne. **ALLAH** Masani ne ga abin da kuke bayyanawa, da abin da kuke boyewa.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ



أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Tsarin Dokokin Sa Tufafi

[24:30] Ka gaya wa muminaɪ maza cewa su runtse daga kallonsu (ba yawan kallon mata ba) kuma su tsare farjinsu. Wannan shi ne mafi tsarki a gare su. **ALLAH** Masani ne ga duk abin da suke aikatawa.

**24:30-31 Saboda haka, sanya tufafi cikin sanaki, halaye masu kyau ga muminaɪ maza da mata. Abin da ake buqata ga tufafin mata shi ne su qara tsowon tufofinsu su don su sauka [33:59] kuma da ta rufe qirjinta. Azzaluman al'adan Larabawa sun ba da na su fahimtar qarya da cewa dole mace ta rufe kanta daga kai har zuwa yatsar qafa; wannan ba tsarin dokan sa tufafin Alqur'ani ba ne ko muslinci.*

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
 جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
 أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
 بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
 أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



[24:31] Kuma ka gaya wa muminaɪ mata su runtsɛ daga kallonsu, kuma su tsare farjinsu. Kada su bayyana kowane gabar jikinsu, sai abin da ya zama tilas. kuma su rufe qirjinsu, kada su sassauta wannan tsarin dokokin sa tufafin a gaban kowa sai dai ga mazajensu, ko ubanninsu, ko ubannin mazansu, ko 'ya'yansu, ko 'ya'yan mazajensu, ko 'yan'uwansu, ko 'ya'yan 'yan'uwansu mata, ko qungiyar wasu mata, ko bayinsu maza wanda suka manyanta kuma basu sha'awar mata, ko yara wanda ba su tsinkaya a kan al'aurar mata ba (ba su balaga ba). Kuma kada su buga qafafunsu idan suna tafiya domin su kada kuma su bayyana wasu gabobin jikinsu. To, sai ku tuba ga ALLAH gaba daya, ya ku muminaɪ, la'alla, ku sami babban rabo.

*24:30-31 Saboda haka, sanya tufafi cikin sanaki, halaye masu kyau ga muminaɪ maza da mata. Abin da ake buƙata ga tufafin mata shi ne su qara tsowon tufofinsu su don su sauka [33:59] kuma da ta rufe qirjinta. Azzaluman al'adan Larabawa sun ba da na su fahimtar qarya da cewa dole mace ta rufe kanta daga kai har zuwa yatsar qafa; wannan ba tsarin dokan sa tufafin Alqur'ani ba ne ko muslinɪci.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Ku Ja Ra'ayi Zuwa Ga Aure Domin Han
Alfasha

[24:32] Ku ja ra'ayin aurad da gwauraye a cikinku. Suna iya su auri salihai daga maza da mata na bayinku; Idan sun kasance matalauta **ALLAH** zai wadatar da su daga falalarSa. **ALLAH** Mawadaci ne, Masani.

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

[24:33] Amma wadanda ba su da zarafin aure, to, sai su kame kansu har **ALLAH** Ya wadatar da su daga falalarSa. Kuma wadanda ke neman `yanci,

daga cikin bayinku, domin su yi aure, to, ku biya masu bukatarsu, idan kun kun tabbatar suna da gaskiya. Kuma ku ba su daga dukiyar **ALLAH** Ya ba ku. Kada ku tilasta `yan matanku su yi karuwanci, domin neman abin duniya, idan sun yi fatan su kama kansu. Kuma wanda ya tilasta su to, **ALLAH**, a bayan tilasta su, Mai gafara ne, Mai jin qai.

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

[24:34] Mun saukar zuwa gare ku, ayoyi masu bayyanawa, da misali daga wadanda suka shige daga gabaninku, da fadakarwa ga masu taqawa.

﴿٣٥﴾ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ
الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ
مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ
تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ
اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

Allah:

[24:35] **ALLAH** ne Hasken sammai da qasa. Misalin HaskenSa, kamar gantsararren madubi ne, a bayan wani fitila wanda aka sanya a cikin wani tambulan gilash. Shi tabulan gilashin, kamar hasken wani, lu'ulu'un taurariya ce. Tana samun man da ke cikinta daga wata itaciyar mai, mai albarka, wanda ba ta da gabas, ko yamma. Kuma manta ta kusan ta yi walqiyar

kanta; ba ta bukatan wuta ya kunna ta. Haske a kan haske. **ALLAH** na shiryar da wanda Yake so zuwa ga HaskenSa. Kumar ta haka ne **ALLAH** ke buga misalai ga mutane. **ALLAH** Masani ne game da dukan kome.

فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا
بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝ ٣٦

[24:36] (Ana samun shiryar Allah) a cikin waaansu gidaje wanda **ALLAH** Ya yi umurnin a daukaka, saboda ambatar sunanSa a cikinsu. suna yin tasbihi a gare Shi a cikinsu, safe da maraice -

رِجَالٌ لَا نُلْهِهِمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝ ٣٧

Wadanda Suke Zuwa Masallaci Kullum

[24:37] Mutanen da wani fatauci ko kaeuwanci ba ya shagaltar da su, daga daga ambaton **ALLAH**; kuma suna tsai da Sallah da bayar da Zakkah, kuma suna sane da wani yini wanda zukata da idanu za su razana.

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ
يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ ٣٨

[24:38] Domin lalle ne **ALLAH** zai saka masu da mafi kyaun abin da suka aikata, kuma Ya qara masu daga falalarSa. **ALLAH** Yana azurta wanda Yake so, ba da lissafi ba.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ يُحْسَبُ الْأَظْمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا
جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فُوفًا ۖ فَوَفَّيْتَهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

Bin Qawalwalniya

[24:39] Amma wadanda suka kafirta ayyukansu kamar qawalwalniya ne a hamada. Mai qishirwa yana zaton ruwa ne. Har sai ya isa wurin, sai ya ga babu kome, amma sai ya sami **ALLAH** a wurin, Ya cika masa hisabi ga ayyukansa. **ALLAH** ne Mafi iya cika sakamako.

أَوْ كَظُلْمَتٍ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ ۗ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ ۗ
سَحَابٌ ۗ ظَلَمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكْدُهُ ۗ لَمْ يَكْدِرْهَا ۗ وَمَنْ
لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾

[24:40] Ko kuwa kamar kasancewa cikin tsananin duhu, a cikin tsakiyar tekun mai ja da qarfi, raqumin ruwa tana rufe da shi, daga bisansa akwai wata gazo mai kaurin gaske. Duhu bisa kan duhu – idan ya kalli fafin hannunsa, dan daqyar zai iya ganinsa. Wanda **ALLAH** bai ba shi haske ba, to, ba ya da wani haske.

الْمُتَرَّانَ أَنَّ اللَّهَ يَسْبِحُهُ لهُ وَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتِ كُلُّ
قَدْ عِلْمَ صَلَاتِهِ ۗ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

[24:41] Shin, ba ka gani ba, cewa kome da yake a cikin sammai da qasa suna yi wa **ALLAH** tasbihi, har duk da tsuntsaye a lokacin da suke shawagi a cikin ginshiqin sanwa? Kowane ya san sallarsa da tasbihinsa. Kuma **ALLAH** Masani ne ga abin da suke aikatawa.

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾

[24:42] Mulkin sammai da qasa na **ALLAH** ne, kuma zuwa ga **ALLAH** makoma take.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى
الْوَدْقَ يُخْرَجُ مِنْ خَلَلِهِ وَيُنزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ
بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ
بِالْأَبْصَرِ ﴿٤٣﴾

[24:43] Shin, ba ka gani ba, cewa **ALLAH** Yana koran girgije, sa'an nan Ya tara su wuri guda, sa'an nan kuma Ya gibga su bisa kan juna, sa'annan ka ga ruwa yana fitowa daga tsattsakinsu? Kuma Yana saukar daga sama tsaunika na daskararriyar ruwa mai laima, ya rufe wanda Yake so da shi, alhali kuwa Yana karkatar da shi daga wanda Yake so. Hasken walqiyarsa (salaja) ya kusan ya makanta idanu.

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

[24:44] **ALLAH** ne mai juyin dare da yini. Lalle ne a cikin wannan akwai abin kula ga masu idanu.

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

[24:45] Kuma **ALLAH** ne Ya halitta kowace dabba daga ruwa. To, daga cikinsu akwai wadanda ke tafiya da cikinsu, wasu kuma na tafiya da qafafu biyu, kuma wasu na tafiya qafafu huɗu. **ALLAH** Yana halitta abin da Ya ga dama. **ALLAH** Mai iko ne a kan kome.

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾

[24:46] Mun saukar da ayoyi masu bayyanawa, sa'annan **ALLAH** Yana shiryar da wanda Yake so zuwa ga hanya madaidaiciya.

وَيَقُولُونَ ءَأَمْنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

Allah Yana Aikawa Da Umurni
Ta Hanyan ManzanninSa

[24:47] Kuma sun ce, "Mun yi imani da **ALLAH** da Manzo, kuma mun yi da'a." Sa'an nan wasu daga gare su, suka darje, daga baya. Kuma wadannan ba muminai ba ne.

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾

[24:48] Kuma idan aka kira su zuwa ga **ALLAH** da ManzonSa, domin Ya yi hukunci a tsakaninsu, sai wasu daga gare su, su bijire.

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾

[24:49] Amma idan haqqi ya kasance a gare su ne, za su amince da yardar zuciya ba wuya.

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ أَرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

[24:50] Shin, a cikin zukatansu akwai cuta ne, ko suna shakka ne? ko kuwa suna tsoron cewa **ALLAH** Ya yi zalunci a kansu da ManzonSa? A'a, su ne azzalumai.

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

*Muminai Ba Su Giga Ko Wata-wata A Kan Da'a
Ga Allah Da ManzonSa*

[24:51] Maganar muminai kawai, idan aka kira su zuwa ga **ALLAH** da ManzonSa domin Ya yi hukunci a tsakaninsu, suna cewa ne kawai, "Mun ji, kuma mun yi da'a." To, wadannan su ne masu cin nasara.

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾

[24:52] Wadanda suka yi da'a ga **ALLAH** da ManzonSa, kuma suka girmama **ALLAH** kuma suka bi Shi da taqawa to wadannan su ne masu babban rabo.

﴿٥٣﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا نَقْسِمُوكُمْ

طَاعَةً مَّعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

[24:53] Kuma suna rantsewa da **ALLAH** iyakar rantsuwarsu, cewa idan da ka ka umurce su su yi shiri, da sun yi shiri. Ka ce, "Kada ku rantse. Da'a takalifi ne. **ALLAH** Masani ne ga dukan abin da kuke yi."

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ

وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

[24:54] Ka ce, "Ku yi da'a ga **ALLAH** kuma ku yi da'a ga Manzo." To, idan sun juya, to, shi ke da alhakin takalifi a kansa, kuma kai ke da alhakin takalifinka. Idan kun yi masa da'a, za ku shiryu. Kuma babu abin da yake a kan Manzo sai kawai isad da saqo bayyananna.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
 الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
 الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا
 يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

*Allah Ya yi Alkawarin
 Khalifai A Duniya*

[24:55] **ALLAH** Ya yi wa'adi ga wadanda suka yi imani daga gare Ku, kuma suka aikata ayyukan qwarai, da cewa lalle zai shugabantar da su (*Khalifai*) a cikin qasa kamar yadda Ya shugabantar (*khalifantar*) da wadanda suke daga gabaninsu, kuma lalle ne zai tabbatar masu da addininsu wanda Ya zabar masu, kuma zai sauya masu aminci tsaro a madadin tsoro. Duk wannan, saboda kawai suna bauta Mini kadai; ba su hada kowa da Ni. Amma wadanda suka kafirta a bayan wannan, to, su ne fasiqai.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
 تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

[24:56] Kuma ku tsayar da Sallah, kuma ku bayar da Zakkah, kuma ku yi da'a ga Manzo, la'alla ku kai ga samun rahamah.

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ

وَلِبَئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾

[24:57] Kada ka yi zaton wadanda suka kafirta za su buwaya a cikin qasa. Makomarsu wuta ce; kuma lalle ne makomar zullumi ce.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ بِكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ
مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى
بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

Qa'idodin Zamantakewa

Ambatan Salloli Biyu Da Sunayensu

[24:58] Ya ku masu imani, wadanda suke bayinku da wadanda basu kai ga balaga ba daga cikinku, su nemi izini (kafin su shiga dakunanku). Wannan, cikin lokuta uku za yi su – daga gabanin sallar alfijir, da yini lokacin da kuke canja tufafinku saboda zafin rana, kuma daga bayan sallar Isha'i. Wadannan su ne al'aurori uku a gare ku. A wasu lokuta, babu laifi a kanku ko a kansu ku yi cudanya da juna. Kamar wannan ne **ALLAH** Yake bayyana ayoyinSa a gare ku. Kuma **ALLAH** Masani ne, Mafi hikimah.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ

[24:59] Kuma idan yara daga cikinku suka kai ga balaga, to, su nemi izni
 (kafin shigowa) kamar yadda wadanda suke a gabaninsu suka nemi iznin
 (kafin shigowa). Kamar wannan ne **ALLAH** Yake bayyana ayoyinSa a gare
 ku. **ALLAH** Masani ne, Mafi hikimah.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ
 أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ
 خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ku Sanya Tufafi Mai Mutunci

[24:60] Kuma tsofaffi daga mata, wadanda ba su fatan wani aure to, babu
 laifi a kansu su sassauta tsarin dokokin tufafinsu, mudun ba su bayyana
 jikinsu da yawa ba. Amma su tsare mutuncinsu shi ne mafi alheri a gare su.
ALLAH Mai ji ne, Masani.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
ءَابَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ
مَفَاتِحَهُ، أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

[24:61] Babu laifi a kan makaho, babu laifi a kan gurgu, babu laifi a kan majiyyaci, kamar yadda babu laifi a kan kowanenku, ku ci abinci daga gidajenku, ko daga gidajen ubanninku, ko daga gidajen uwayenku, ko daga gidajen 'yan'uwanku maza, ko daga gidajen 'yan'uwanku mat, ko daga gidajen baffanninku, kō daga gidajen gwaggwanninku, kō daga gidajen kawunnanku, ko daga gidajen innaninku, ko gidajenku da kuka mallaki mabudansu, ko gidajen abokanku. Babu laifi a gare ku ku ci abinci tare, ko dabam-dabam. To, idan kuka shiga kowane gida, ku yi sallama da juna, da gaisuwa daga wurin **ALLAH** mai albarka da kyau. Kamar haka ne **ALLAH** Yake bayyana maku ayoyinSa, la'alla ku yi hankali.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ
 جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذِنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأُذِنَ
 لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

 رَجِيمٌ

[24:62] Wadanda ke muminai na qwarai, su ne wadanda suka yi imani da **ALLAH** da ManzonSa,* kuma idan sun kasance tare da shi, a kan wani al'amari na aikin gayya, ba su barinsa sai sun nemi izni. Wadanda suke neman izni su ne suka yi imani da **ALLAH** da ManzonSa. To, idan suka nemi izninka, saboda wani sha'aninsu, to, ka ba su izni ga wanda ka so, kuma ka nema masu gafara daga **ALLAH**. **ALLAH** Mai gafara ne, Mafi jin qai.

Wannan ayah tana da alaqa da manzon Allah na Wa'adi; idan aka hada abjadin "Rashad" (505) da nauyin abjadin "Khalifa" (725), da lambar ayah (62), za mu sami 1292, ninkin 19 (1292 = 19x68). Dubi shafi 2.

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ
 يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ
 يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

[24:63] Kada ku dauki roqon Manzo kamar irin roqon junanku. **ALLAH** Ya san wadanda ke lebewa daga cikinku a kan wasu labelaben dalilai. To, su yi hankali – domin waaanda suke sabawa daga umurninSa, fitina za ta iya ta same su, ko kuwa wata azaba mai radadi ta same su.

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ
 وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

[24:64] Lalle ne, **ALLAH** ne Yake da mulkin abin da ke a cikin sammai da qasa. Ya san irin halin zaman da kuke ciki. A ranar da za mayar da ku zuwa gare shi, zai ba su labari game da duk abin da suka aikata. **ALLAH** Masani ne ga dukkan kome.